

إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

بیشک میرا رب ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے اور نپاٹتا دیتا ہے (جس کو چاہے)۔

سَبَّأ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ

سب خوبی (حمد) اللہ کی ہے، جس کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں،

وَلَهُ الْحَمْدُ فِی الْاٰخِرَةِ

اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں۔

وَهُوَ الْحَكِیْمُ الْخَبِیْرُ ﴿١﴾

اور وہی ہے حکمتوں والا سب جانتا۔

یَعْلَمُ مَا یَلِیْجُ فِی الْاَرْضِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْهَا

جانتا ہے جو پھٹتا (داخل ہوتا) ہے زمین میں، اور جو نکلتا ہے اس سے،

وَمَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمٰوٰءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیْهَا

اور جو اترتا ہے آسمان سے، اور جو چڑھتا ہے اس میں،

وَهُوَ الرَّحِیْمُ الْغَفُوْرُ ﴿٢﴾

اور وہی ہے رحم والا بخشتا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ^ط

اور کہنے لگے منکر، نہ آئے گی ہم پر وہ گھڑی۔

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمِ الْغَيْبِ^ط

ٹو کہہ، کیوں نہیں؟ قسم ہے میرے رب کی، البتہ آئے گی تم پر، اُس چھپے جانے والے کی۔

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ

غائب نہیں ہو سکتا اُس سے کچھ ذرہ بھرا آسمانوں میں نہ زمین میں،

وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٤﴾

اور اور کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی، جو نہیں ہے کھلی کتاب (لوح محفوظ) میں۔

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ^ج

تا (کہ) بدلہ دے اُنکو، جو یقین لائے اور کئے بھلے کام۔

أُولَئِكَ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥﴾

وہ جو ہیں، اُنکو ہے معافی اور روزی عزت کی۔

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ هُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٍ ﴿٦﴾

اور جو لوگ دوڑے ہماری آیتوں کے ہرانے (نچا دکھانے)، اُنکو بلا کی مارے دکھ والی۔

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ

اور دیکھ لیں جنکو ملی ہے سمجھ، کہ تجھ پر اترتا تیرے رب سے، وہی ٹھیک (حق) ہے،

وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦﴾

اور سوچھاتا ہے راہ اس زبردست خوبیوں والے کی۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُرِقْتُمْ كُلٌّ مُّرِقٍ
اور کہنے لگے منکر، ہم بتائیں تم کو ایک مرد، کہ تم کو خبر دیتا ہے، جب تم پھٹ کر ہو جاؤ ٹکڑے ٹکڑے،

إِنكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾

تم کو پھر نیا بنانا ہے (پیدا ہونا ہے نئے سرے سے)۔

أَفَتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۗ

کیا بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ؟ یا اسکو سودا (دیوانگی) ہے۔

بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾

کوئی نہیں! جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا آفت میں ہیں، اور صریح غلطی میں۔

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ

کیا دیکھتے نہیں؟ جو کچھ انکے آگے ہے اور پیچھے ہے، آسمان و زمین میں۔

إِنْ نَشَاءُ نَحْشِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقِطْ عَلَيْهِم كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ ۗ

اگر ہم چاہیں، دھنسا دیں انکو زمین میں، یا گرا دیں ان پر ٹکڑا آسمان سے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٩﴾

اس میں پتا (نشانی) ہے ہر بندے کو، جو (اللہ کی طرف) رجوع رکھتا ہے۔

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۗ

اور ہم نے دی داؤد کو اپنی طرف سے بڑائی۔

يَنْجِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ^{صلے}

اے پہاڑو! رجوع سے پڑھو اسکے ساتھ اور اڑتے جانورو!

وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾

اور نرم کر دیا ہم نے اسکے آگے لوہا۔

أَنْ أَعْمَلَ سَبِغَتْ وَقَدِّرَ فِي السَّرْدِ^{صلے}

کہ بنا کشادہ زر ہیں، اور اندازے سے جوڑ کر کڑیاں،

وَأَعْمَلُوا صَالِحًا^{صلے}

اور کرو تم سب کام بھلا۔

إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

میں جو کرتے ہو دیکھتا ہوں۔

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوَهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ^{صلے}

اور سلیمان کے آگے باؤ (ہوا)، صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینہ۔

وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ^{صلے}

اور بہا دیا ہم نے اسکے واسطے چشمہ پگھلتے تانبے کا۔

وَمِنَ الْجِنَّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ^{صلے}

اور جنوں میں سے کتنے لوگ جو منت کرتے اسکے سامنے، اسکے رب کے حکم سے۔

وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾

اور جو کوئی پھرے ان میں ہمارے حکم سے چکھائیں ہم اسکو آگ کی مار۔

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ

بناتے اسکے واسطے جو چاہتا قلعے اور تصویریں،

وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ ﴿١٢﴾

اور لگن جیسے تالاب اور دیکھیں چولھوں پر جمیں۔

أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا ﴿١٣﴾

کام کرو داؤد کے گھر والو! حق مان کر۔

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٤﴾

اور تھوڑے ہیں میرے بندوں میں حق ماننے (شکر کرنے) والے۔

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ

پھر جب تقدیر کی ہم نے اس پر موت،

مَا دَهَمَهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِن سَأْتِهِ ^{صل}

نہ جتایا انکو اسکا مرنا مگر کیڑے نے گہن کے، کھاتا رہا اسکا عصا۔

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ

پھر جب وہ گر پڑا، معلوم کیا جنوں نے،

أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١١﴾

کہ اگر خبر رکھتے ہوتے غیب کی، نہ رہتے ذلت کی تکلیف میں۔

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۖ

قوم سبا کو تھی اُنکی بستی میں نشانی۔

جَنَّاتٍ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ

دو باغ داہنے اور بائیں۔

كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ

کھاؤ روزی اپنے رب کی، اور اسکا شکر کرو،

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۗ

دیس ہے پاکیزہ،

وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿١٢﴾

اور رب ہے گناہ بخشا۔

فَاعْرَضُوا

پھر دھیان میں نہ لائے،

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ

پھر چھوڑ دیا ہم نے اُن پر نالہ زور کا،

وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ

اور دیئے انکو بدلے ان دو باغوں کے دو اور باغ،

ذَوَاتِ أَكُلٍ خَمَطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١١﴾

جس میں کچھ ایک میوہ کیسیلا اور جھاؤ، اور کچھ بیر تھوڑے سے۔

ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا^ص

یہ بدلہ دیا ہم نے انکو اس پر کہ ناشکری کی۔

وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴿١٢﴾

اور ہم (ایسا) بدلہ اسکو دیتے ہیں جو ناشکر ہو۔

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً

اور رکھی تھی ہم نے ان میں اور ان بستیوں میں جہاں ہم نے برکت رکھی ہے، بستیاں راہ پر نظر آتیں،

وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ^ص

اور منزلیں ٹھہرا دیں ہم نے ان میں چلنے کی۔

سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿١٣﴾

پھر وہ ان میں راتوں اور دنوں امن سے۔

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا

پھر کہنے لگے اے رب! فرق ڈال ہمارے سفر میں،

وَزَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

اور اپنا بُرا کیا،

فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَقٍ

پھر کر ڈالا ہم نے اُنکو کہانیاں اور چیر کر ڈالا ٹکڑے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١١﴾

اس میں پتے (نشانیوں) ہیں ہر ٹھہرنے (صبر کرنے) والے کو، جو حق سمجھے۔

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ

اور سچ کر دکھائی اُن پر ابلیس نے اپنی انکلی (گمان)،

فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾

پھر اسی کی راہ چلے، مگر جھوڑے سے ایماندار۔

وَمَا كَانَ لَهُدْ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ

اور اُسکا ان پر کچھ زور نہ تھا،

إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ

مگر اتنے واسطے تا (کہ) معلوم کریں ہم، کون یقین لاتا ہے آخرت پر، الگ اس سے جو رہتا ہے اسکی طرف سے دھوکے میں۔

وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿١٣﴾

اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ^ط

تو کہہ، پکارو انکو جن کو دعویٰ کرتے ہو، سو اللہ کے۔

لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ

وہ نہیں مالک ایک ذرہ بھر کے آسمانوں میں نہ زمین میں،

وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ﴿١٢﴾

اور نہ انکا ان دونوں میں سا جھا، اور نہ ان میں کوئی اسکا مددگار۔

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ^ع

اور کام نہیں آتی سفارش اسکے پاس مگر اسکو جس کے واسطے حکم دیا۔

حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ^ط

یہاں تک کہ جب گھبراہٹ اٹھائی جائے انکے دل سے، کہیں، کیا فرمایا تمہارے رب نے؟

قَالُوا الْحَقُّ^ط

وہ کہیں، جو واقعی ہے۔

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿١٣﴾

اور وہ ہے سب سے اوپر بڑا۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ^ط

تو کہہ، کون روزی دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے؟

قُلِ اللَّهُ

بتا کہ اللہ!

وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾

اور یا ہم یا تم بیشک سو جھ پر ہیں، یا پڑے ہیں بہکا وے میں صریح۔

قُلْ لَا تَسْأَلُونَنَا عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

تو کہہ، تم سے نہ پوچھیں گے جو ہم نے گناہ کیا، اور ہم سے نہ پوچھیں گے جو تم کرتے ہو۔

قُلْ تَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ

تو کہہ، جمع کریگا ہم سب کو رب ہمارا، پھر فیصلہ کریگا ہم میں انصاف کا۔

وَهُوَ الْفَاتِحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٣﴾

اور وہی ہے نیا و چکانے (بہترین فیصلہ کرنے) والا سب جانتا۔

قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ

تو کہہ، مجھ کو دکھاؤ تو، جن کو اس سے ملاتے ہو سا جھی ٹھہرا کر۔

كَلَّا

کوئی (ہرگز) نہیں!

بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

وہی ہے اللہ زبردست حکمتوں والا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا، سوسارے لوگوں کے واسطے خوشی اور ڈر سنانے کو،

وَلٰكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٢٩﴾

اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو۔

قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعْرِفُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾

تو کہو، تم کو وعدہ ہے ایک دن کا، نہ دیر کرو گے اس سے ایک گھڑی، نہ شتابی (جلدی)۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْءَانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

اور کہنے لگے منکر، ہم ہرگز نہ مانیں گے یہ قرآن، اور نہ اس سے اگلا (پہلی کتابیں)۔

وَلَوْ تَرَىٰٓ اِذِ الظّٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ

اور بھی تو دیکھے، جب گنہگار کھڑے کئے گئے ہیں اپنے رب کے پاس،

يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ الْقَوْلِ

ایک دوسرے پر ڈالتا ہے بات۔

يَقُولُ الَّذِينَ اَسْتَضْعَفُوا لِّلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

کہتے ہیں جن کو کمزور سمجھا تھا، بڑائی کرنے والوں کو، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے۔

قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا لِّلَّذِينَ اَسْتَضْعَفُوا

کہنے لگے بڑائی کرنے والے کمزور گئے گئوں کو،

أَخْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ^ط

کیا ہم نے روک رکھا تھا تم کو سوچھ کی بات (ہدایت) سے؟ تمہارے پاس پہنچے پیچھے،

بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿٢٢﴾

کوئی نہیں! تم ہی تھے گنہگار۔

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا

وہ کہنے لگے کمزور گئے گئے، بڑائی کرنے والوں کو،

بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا

کوئی نہیں! پرفریب سے رات دن کے، جب تم ہم کو حکم کرتے، کہ ہم نہ مانیں اللہ کو اور ٹھہرائیں اس کے ساتھ برابر کے۔

وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ

اور چھپے چھپے پچھتانے لگے، جب دیکھا عذاب۔

وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا

اور ہم نے ڈالے ہیں طوق گردنوں میں منکروں کے۔

هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

وہی بدلہ پاتے ہیں، جو کرتے تھے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا

اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، مگر کہنے لگے ہیں وہاں کے آسودہ لوگ،

إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٦٤﴾

ہم تمہارے ہاتھ بھیجا نہیں مانتے۔

وَقَالُوا خَنُّنَا كَثْرُ أَمْوَالِنَا وَأَوْلَادِنَا وَمَا خَنُّنَا بِمُعَذِّبِنَا ﴿٦٥﴾

اور کہنے لگے، ہم کو زیادہ ہے مال اور اولاد، اور ہم پر آفت نہیں آئی۔

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

تو کہہ، میرا رب ہے جو پھیلا دیتا ہے روزی جسکو چاہے، اور ماپ کر دیتا ہے (جسکو چاہے)۔

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

لیکن بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ

اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد، وہ نہیں کہ نزدیک کر دیں ہمارے پاس تمہارا درجہ،

إِلَّا مَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ هُم جَزَاءُ الْوَعْدِ بِمَا عَمِلُوا

پر جو کوئی یقین لایا، اور بھلا کام کیا۔ سو انکو ہے بدلہ دونا انکے کئے (اعمال) پر،

وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٦٧﴾

اور وہ حجر و کون (جنت کے درپوں) میں بیٹھے ہیں خاطر جمع (اطمینان) سے۔

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٦٨﴾

اور جو لوگ دوڑتے ہیں ہماری آیتوں کے ہرانے (نچا دکھانے) کو، وہ مار میں پکڑے آتے ہیں۔

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ رُجُوعًا

تو کہہ، میرا رب پھیلا (کشاہدہ کر) دیتا ہے روزی، جسکو چاہے اپنے بندوں میں، اور ماپ کر دیتا ہے اسکو (جسکو چاہے)۔

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ^ط

اور جو خرچ کرتے ہو کچھ چیز، وہ اسکا عوض دیتا ہے،

وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٦٦﴾

اور وہ بہتر ہے روزی دینے والا۔

وَيَوْمَ تَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ

اور جس دن جمع کریگا ان سب کو، پھر کہے گا فرشتوں کو،

أَهْتُولَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٦٧﴾

کیا یہ لوگ تھے تم کو پوجتے؟

قَالُوا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ^ط

وہ بولے، پاک ذات ہے تیری، ہم تیری طرف ہیں، نہ (کہ) اُنکی طرف۔

بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ^ط

نہیں پر (یہ) پوجتے تھے جنوں کو۔

أَكْثَرُهُمْ بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴿٦٨﴾

یہ اکثر انہی پر یقین رکھتے ہیں۔

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا

سو آج تم مالک نہیں ایک دوسرے کے بھلے کے، نہ بُرے کے،

وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤٦﴾

اور کہیں گے ہم ان گنہگاروں کو، چکھو تکلیف اس آگ کی، جس کو تم جھوٹ بتاتے تھے۔

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ

اور جب پڑھی جائیں ان پاس ہماری آیتیں کھلی،

قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ آبَاءَكُمْ

کہیں اور نہیں، مگر یہ ایک مرد ہے، کہ چاہتا ہے، روک دے تم کو ان سے جکو پوجتے رہے تمہارے باپ دادے۔

وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنْكَارٌ لِّمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

اور کہیں، اور نہیں، یہ جھوٹ ہے باندھ لیا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٤٧﴾

اور کہتے ہیں منکر ٹھیک بات کو، جب پہنچے ان تک، اور نہیں، یہ جادو ہے صریح۔

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا

اور ہم نے دی نہیں انکو کچھ کتابیں، جن کو پڑھتے ہیں،

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ﴿١٤٨﴾

اور بھیجا نہیں ان پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

اور جھٹلایا ہے ان سے اگلوں نے،

وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي

اور یہ نہیں پہنچے دسویں حصہ کو جو ہم نے انکو دیا تھا، پھر جھٹلایا میرے بھیجوں کو،

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾

تو کیسا ہوا بگاڑ (عذاب) میرا؟

قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ

تو کہہ میں تو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں تم کو،

أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِيَ وَفَرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ

کہ اٹھ کھڑے ہو اللہ کے کام پر دو دو اور ایک ایک،

مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جَنَّةٍ

پھر دھیان کرو۔ اس تمہارے رفیق کو کچھ سودا (دیوانہ پن) نہیں۔

إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾

یہ تو ایک ڈرانے والا ہے تم کو، آگے آگے ایک بڑی آفت کے۔

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ

تو کہہ، جو میں نے تم سے مانگا تھا کچھ نیک (اجر)۔ سو تمہیں کو پہنچے۔

إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ

میرا نیک (اجر) اسی اللہ پر،

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾

اور اسکے سامنے ہے ہر چیز۔

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾

تو کہہ، میرا رب پھینکتا جاتا ہے سچا دین۔ وہ جاننے والا ہے چھپی چیزیں۔

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾

تو کہہ، آیا دین سچا۔ اور جھوٹ کونہ پہلا وار نہ دوسرا۔

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ﴿٥٠﴾

تو کہہ، اگر میں بہکا ہوں، تو یہی کہ بہکوں گا اپنے بُرے کو۔

وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ رَبِّي ﴿٥١﴾

اور اگر میں سوچھا (ہدایت پر) ہوں تو اس سبب سے کہ وحی بھیجتا ہے مجھ کو میرا رب۔

إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٢﴾

وہ سنتا ہے نزدیک۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥٣﴾

اور کبھی تو دیکھے، جب یہ گھبرائیں گے، پھر بھاگے نہیں بچتے، اور پکڑے آئے نزدیک جگہ سے۔

وَقَالُوا ءَأَمْنَا بِهِ ؕ

اور کہنے لگے، ہم نے اسکو یقین مانا،

وَأَنِّي لَهُمُ التَّنَاوُسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٤﴾

اب کہاں انکا ہاتھ پہنچ سکتا ہے دُور جگہ سے۔

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ

اور اس سے منکر ہو رہے آگے (پہلے) سے۔

وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

اور پھینکتے رہے بن دیکھے نشانے پر، دور جگہ سے۔

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِمَّنْ قَبْلُ

اور انکاؤ (پڑہ) پڑ گیا ان میں اور جو انکا جی چاہے ان میں جیسا کیا گیا ہے انکے راہ والوں سے پہلے۔

إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿٥٣﴾

وہ لوگ تھے دھوکے میں جو چین نہ لینے دیتا۔



© Copy Rights:
Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana
Lahore, Pakistan
www.quran4u.com